

بازرگانیہ کی براوہو بہ دست

ہاتوو

لہ وتہ و کردہوہی لہ سوننہ تدا

ہاتوو

تاماہہ کرمان و وہرکیرانہ

م. ہیمنہ محمد

پہاچونہ و ہا

م. صلاح الدین عبدالکریم / چہمچہ مال

چاپی دووهم : ١٤٣٢ ك / ٢٠١١ ز

ژماره‌ی سپاردن :

☞ مافی چاپکردن و له‌به‌رگرتنه‌وه‌ی پارێزراره.

بنکه‌ی بلاوکردنه‌وه

کتیبخانه‌ی زانست
که‌لار

کتیبخانه‌ی سیما
چه‌مچه‌مال

کتیبخانه‌ی ئیمان
سایمانی

کتیبخانه‌ی سوننه
سایمانی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

خَيْرُ مَا يَسِطُرُهُ الْقَلَمُ، حَمْدُكَ اللَّهُمَّ عَلَى جَزِيلِ النِّعَمِ،
وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِيِّ خَيْرِ الْأُمَمِ، مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

بهراستی خوای گه وره فه زلّ و چاکه ی ئیمه ی داوه به سه ر
گشت دروست کراوه کانی تری به وه ی که زمانی قسه کردنی
داوه پیمان، ئه وه ش به خششیکه به کارئه هینری له خیرو
چاکه و شه پو خراپه دا، جا هه رکه سی به کاری بهیننی له خیرو
چاکه دا ئه وا له دنیا دا به خوشگوزهرانی و به خته وه ری و له
به هشتدا به شوین و پله ی به رزی ئه گه یه نیت، وه هه رکه سی
له چاکه دا به کاری نه هیننی ئه وا به ره و هیلاکه ت و به دب ختی
ئه بات له دونیا و دوارپوژدا، وه بزانه باشترین شت که تو
زمانی تیدا به کاربینی له هه مووکات و ساتیکدا له دوا ی
خویندنی قورئانی پیروز بریتییه له زیکرو یادکردنی خوای
گه وره، که بیگومان له م باره وه فه رموده ی زور هاتوو که

هانمان ده دات له سه ر زۆر زیکر کردن، وه له م فه رمودانه ش:

مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ رَبَّهُ مَثَلُ الْحَيِّ وَ الْمَيِّتِ (متفق عليه). واته: نمونه ی ئه و كه سه ی كه یادی خوی گه وره ئه كات وه ئه و كه سه ی یادی ناكات، وه ك نمونه ی زیندو و مردویكه . هه روه ها خوی گه وره له فه رموده یه کی قودسیدا ده فه رمویت: (أنا عند ظنِّ عبدي بي وأنا معه إذا ذكّرني فإن ذكّرني في نفسه ذكّرتُه في نفسي، و إن ذكّرني في مالا ذكّرتُه في مالا خيرٍ منهم، و إن تقربَ إليَّ شبراً تقربْتُ إليه ذراعاً...)(البخاري). واته: من به گویره ی گومانی به نده كه مم وه من له گه لیدام به بینین و بیستن و ئاگایی كاتی كه یادم ئه كات، ئه گه ر ئه و له ناخ و نه فسی خۆیدا باسم بكات و یادم بكات، ئه و ا منیش له نه فسی خۆمدا یادی ئه كه م، وه ئه گه ر ئه و له لای خه لك و پیاو ماقولان یادم بكات ئه و ا من له لای كه سانیک ی باشت ر یادی ده كه م، وه ئه گه ر بیته و به نده كه م بستیک لیم نزیك بیته وه ئه و ا من بالئیک لیبی نزیك ده بمه وه ... وه له فه رموده یه کی ترده ئه فه رموی: (سَبَقَ الْمُفْرَدُونَ، قالوا:

وَمَا الْمَفْرَدُونَ يَا رَسُولُ اللَّهِ؟ قَالَ الذَّاكِرُونَ اللَّهَ
 وَالذَّاكِرَاتِ (مسلم). واتہ: پیش کہ وتن ئہ و کہ سانہ (المفردون)
 وترا ئہ ی پیغہ مبهری خودا ﷺ کین ئہ وانہ؟ فہ رموی ئہ وانہ ی
 کہ زی کرو یادی خوی گہ ورہ زور دہ کہن لہ پیاوان و
 ٹافرہ تان. ہہ روہا خوشہ ویستمان ﷺ لہ ٹاموژگاری کردنی
 یہ کی کدا فہ رموی (با بہ ردہ وام زوبانت بہ زیکر و یادی خوی
 گہ ورہ تہ پ بیٹ) (الترمذی).

له سودو که لکه کانی زیکر و یادی خوای گه وره

یادکردنی خوای گه وره شهیتانی نه فرین لیکراو دهرئه کات و کپی ئه کاته وه، وه په زامه نندی خوای گه وره ی تیا به، هه روه ها خه م و خه فته له ناو دلدا ناهیللی، خووشی و شادی و کامه رانی بو دل ئه هیئی، دل و دهر وون و دهم و چاو و جهسته به هیز ئه کات و پووشن و پرشنگذاری ئه کاته وه، وه ده بیته هوئی زیادبونی پزق و پووزی، هه روه ها ئه و که سه ی یادی خوا ئه کات خاوه ن خووشی و گه شاوه یی و شکومه نندی یه، وه خووشه یستی و چاودیری و گه پانه وه یه بو لای خوای په روه ردگار، وه دورکه و تنه وه و سلکردنه وه له نه هیه کانی خوای گه وره له ناخ و دل و دهر وون ئه چیئی، هه روه ها پونی و په وانی و زیندویه تی به دل ئه به خشی، که ئه وه هیزیکه بو دل و روح. وه به نده ئه گه ر له کاتی ئاسایی و هیمنیدا خوای ناسی و یادی کرد، ئه وا خوای گه وره له کاتی ته نگانه و ترس و له رزدا ئه یناسی و له بیریه تی که پزگارکردنیه تی له سزای خوئی. وه زیکرکردن هوکاریکه بو دابه زینی دل نه وایی و

ہیمنی و ہاتنی پرحمہ تی خوی پہرودردگار، وہ بہ ہوی
 زیکرکردن زمان سہرقالّ ئەبّی و دور ئەبّی لہ غہیبہت کردن و
 قسہ ہیئان و بردن و درو و زور بلّی و قسہی بی سودو بی
 مانا و سہرجہم ئەو تاوانانہی کہ بہ زمان ئەکرین.

بہ راستی یادکردنی خوی گہورہ ئاسان ترین پہرستشہ، وہ
 لہ گہورہترین و بہرّیزترینیانہ،

وہ بریتہ لہ نہمامہکانی بہہشت، وہ یادکردنی خوی
 گہورہ ئەبیتہ نور و پوناکی لہ دونیاو ناوقہبرو دواروژدا بو
 ئەو کہ سانہی کہ ئەنجامی دەدەن. سہرہ پای ہموو
 ئەوانہش پیغہمبەر ﷺ ئەفہرموی: (ئایا ہە والتان دەمی لہ
 باشترینی کردہ وہ کانتان، وہ پاکترینیان بی لای
 پہرودردگارتان و دەرہجہتانی پی بہرزبیتہوہ، وہ باشتر
 بیت لہ بہخشینی زیرو پارہ، وہ باشتر بیت بوّتان لہ جیہاد
 کردن؟ وترا بہ لی: فہرموی: ئەوہ یادی خوی گہورہیہ
 (ذکر اللہ) (الترمذی) و صحیح فی صحیح الجامع برقم (۲۶۲۹).

**يُسْتَأْشِ هَهُنْدِيكَ لَهْ وَزِيكِرُو^(۱) كِرْدَارَانَه
دَه خَه يِنَه رُوو، كَه پَادَا شْتِي كَه وَرَه هَه يَه بُو
ئَه نَجَام دَه رَانِيَان لَه لَآيَه ن خَوَاي كَه وَرَه وَه بَه
ئُو مَيْدِي سُو د وَه رَكْرَتِن لِيَان اِنْشَاء اللّٰه**

۱- مَوْتَابَه عَه كِرْدَنِي بَانْگ بِيژُو وَتَنَه وَهِي دَوَاي نَه وَو

خَوِيْنَدَنِي نَزَاي دَوَاي بَانْگ؛ پِيغَه مَبَه ر ﷺ نَه فَه رَمُوِي: -

(هَه رَكَه سِيْكَ كُوِي لَه بَانْگ بِيْ وَ پَا شَان بَلِي: (اللّٰهُمَّ رَبَّ هَذِهِ

الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ

وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ) نَه وَآئَه بَم بَه شَه فَاعَه تَكَار

بُوِي لَه رُوژِي دَوَايْدَا.) (صَحِيْح) فِي صَحِيْح الْجَامِع

بِرَقْم (۶۴۲۳).

(۱) (تَيْبِيْنِي: هَه مَوو نَه وَفَه رَمُوْدَانَه ي كَه هَاتُوون دَه رَه يِنَرَاون لَه (صَحِيْح الْجَامِع

الصَغِيْر) ي شَيْخ نَه لَبَانِي (رَه حَمَه تِي خَوَاي لِيْبِيْت)).

۲- جوان دست نویژ شوشتن (له سه ر سوننه ت) :

پیغه مبه ر ﷺ ئە فه رموی: (هه ر که سیك دەست نویژ بشوات به باشترین شیوه ئەوا گونا هه کانی له به ده نی ئە بنه وه هه تا وه کو ئە وه ی له ژیر نینۆ که کانی شییه تی) (صحیح) فی صحیح الجامع برقم (۶۱۶۹).

۳- نزای دوای دهست نویژ گرتن:

پیغه مبه ر ﷺ ئە فه رموی: (هه ر که س له ئیوه دهست نویژ بشوات به باشترین شیوه و پاشان بلی (أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله) ئەوا هه ر هه شت ده رگا کانی به هه شتی بو ده کرینه وه و ئە چیتته ناویه وه له هه ر ده رگایه کیانه وه بیه وی.) (صحیح) فی صحیح الجامع برقم (۶۱۶۴).

۴- زۆر هه نگاوانان له رۆیشتندا بو مزگه وت:

پیغه مبه ر ﷺ ئە فه رموی: هه ر که سیك بچیت بو نویژی جه ماعت ئەوا به هه ر هه نگاوانانیکی تاوانیکی لی رهش ده بیته وه و چاکه یه کی بو ئە نوسری له رۆیشتن و

گه پارانوه شیدا) له مزگه وت. (صحیح) فی صحیح الجامع برقم (۶۴۰۵).

۵- خوشوړینی روژی هه یینی:

پیغه مبه ر ﷺ ئە فه رموی: هه رکه سیك له روژی جومعه دا خوئی بشوات و زور زوو و به پی بروات بو مزگه وت و نزيك ببیته وه له ئیمام و گوئی لیبگریت و قسه نه کات، ئەوا به هر ههنگاو یکی که دهی نیت بو مزگه وت پاداشتی یه ک سال نویت و روژووی هه یه. (صحیح) فی صحیح الجامع برقم (۶۳۶۲).

۶- پاریزگاری کردن له سهه سوننه ته رهواتبه کان (المؤکد) ی

پیش و پاش نویره فه رزه کان: پیغه مبه ر ﷺ ئە فه رموی: هه رکه سیك له شه و روژیکدا (۱۲) رکعات نویتری سوننه ت بکات ئەوا بینایه کی له به هه شت دا بو دروست ده کریت } ۴ رکعات پیش نویتری نیوه رو و ۲ رکعاتی دوایی، ۲ رکعات دوای ئیواره (المغرب)، ۲ رکعات دوای نویتری خه وتنان، ۲ رکعات پیش نویتری به یانی. (صحیح) فی صحیح الجامع برقم (۶۲۶۵).

۷- پاریزگاری کردن لہ سہر گہ یشتن بہ اللہ اکبری نویژ

دابہ ستن (تکبیرہ الاحرام): پیغہ مبر ﷺ ئە فہ رموی:

ہہرکہ سیئک (۴۰) پوژ لہ سہر یہک نویژہ کانی بہ جہماعہت بکات بو خوی گہورہ و بہ (اللہ اکبر) نویژ دابہ ستن پراگہ یشت ئەوا لہ دوو شت پزگاری دہ بیئت، پزگار بون لہ ئاگرو پزگار بون لہ دوو پووی. (صحیح) فی صحیح الجامع برقم (۶۳۱۷).

۸- نویژ کردن لہ سہر مردوو و پاشان پویشتن لہ گہئی تا

دہشاردریئتہ وہ: پیغہ مبر ﷺ ئە فہ رموی: (ہہرکہ سیئک لہ سہر

جہ نازہ یہک ئامادہ بیئت تاوہ کو نویژی لہ سہر دہ کریت، ئەوا پاداشتی قیراتیکی بوہ یہ، و ہہرکہ سیئک تا ئەشاردریئتہ وہ ئامادہ بیئت ئەوا پاداشتی دوو قیراتی بوہ یہ، و ترا دوو قیرات چی یہ؟ فہ رموی نمونہ ی دوو چپای گہورہن). (صحیح) فی صحیح الجامع برقم (۱۱ ۶۱).

۹- خویندنی نایہ تی کورسی :

پیغہ مبر ﷺ ئە فەرموی: (هەرکە سێک نایە تی کورسی بخوینی
 لە پاش ھەموو نوێژە فەرزەکان ھێچ شتیەک پێگری لێ ناکات
 لە چوئە ناو بە ھەشتی تەنھا مردن نەبێ) (واتە کە مرد
 ئەوکات دەچیتە بە ھەشت) (صحیح) فی صحیح الجامع
 برقم (۶۴۶۴).

۱۰- وتنی (سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ): پیغہ مبر ﷺ ئە فەرموی:
 (هەرکەس بە یانیان و ئیواران (۱۰۰) جار بلی (سُبْحَانَ اللَّهِ
 وَبِحَمْدِهِ) ئەوا ھەموو گوناھەکانی پەش دەبنەو ئەگەر بە
 ئەندازە ی کە فی سەر دەریاش بێ، وە ھێچ کە سێک لە پۆژی
 دوایی دا لەو باشتر نایەت بە ھۆی ئەو و یردەو تەنھا کە سێک
 وەکو ئەو یان لەو زیاتری وتبیت). (صحیح) فی صحیح الجامع
 برقم (۶۴۳۱).

۱۱- وتنی (سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ):

پیغه مبهەر ﷺ ئە فه رموی (دوو وشه ی سوک و ئاسانن له سهەر زوبان، سه نگین له ته رازوو دا، وه خۆشه ویستن له لای خوای گه وره .) (صحیح) فی صحیح الجامع برقم (۶۴۲۹).

۱۲- به پۆژوو بونی (۳) پۆژ له هه موو مانگی کدا {مه به ست له

۱۳، ۱۴، ۱۵ ی هه موو مانگی کی عه ره بی یه } و پۆژی عه ره فه و

پۆژی عاشورا:

پیغه مبهەر ﷺ ئە فه رموی: (به پۆژوو بونی (۳) پۆژ له هه موو مانگی کدا و له په مه زانه وه بۆ په مه زانیکی تر به پۆژوو بونی سالیکیه) (صحیح) فی صحیح الجامع برقم (۶۰۳۱)، (وه پرسیار کرا له به پۆژوو بونی پۆژی عه ره فه فه رموی گوناھی سالیکی پیش و سالیکی داهاتوو ره شه ش ئە کاته وه) (صحیح) فی صحیح الجامع برقم (۷۲۵۳)، وه پرسیار کرا له به پۆژوو بونی پۆژی عاشورا فه رموی گوناھی سالیکی رابردوو ئە بات) (صحیح) فی صحیح الجامع برقم (۷۲۵۴).

۱۳- وتنی (سید الإستغفار) له به یانیان و ئیواران دا :

پیغه مبه‌ر ﷺ سه باره‌ت به‌م دوعا گه‌وره‌یه: (اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ ، وَأَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ ، وَأَبُوءُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ) فەرمویه‌تی: (هه‌رکه‌سیک له رۆژ دا ئەم ویرده بخوینیت و ئەو رۆژه مرد پیش ئەوه‌ی ئیواره داییت ئەوا له ئەه‌لی به‌ه‌شته، وه هه‌رکه‌سیک له شه‌و دا به‌ دلنیا‌یی یه‌وه بی‌لی ئەو شه‌وه مرد پیش ئەوه‌ی به‌یانی بکاته‌وه ئەوا له ئەه‌لی به‌ه‌شته.) (صحیح) فی صحیح الجامع برقم (۳۶۷۴).

۱۴- ئە نجامدانی نو‌یژی به‌یانی به‌جه‌ماعه‌ت و مانه‌وه له

مزگه‌وت بۆ زیکر و عیباده‌ت کردن تا رۆژه‌لآت: پیغه مبه‌ر ﷺ ئە فەرمو‌ی: (هه‌رکه‌س نو‌یژی به‌یانی به‌ جه‌ماعه‌ت بکات، پاشان له مزگه‌وت بمینیته‌وه تاکو خۆره‌لآت، ئینجا دوو پکعات نو‌یژ بکات، ئەوا پادا‌شتی وه‌ک حه‌ج و عومره‌یه‌کی

تهواو تهواو تهواوی ههیه). (صحیح) فی صحیح الجامع
برقم (۶۳۴۶).

۱۵- وتنی (سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ **عَدَدَ خَلْقِهِ** وَرِضًا نَفْسِهِ وَزِنَةَ
عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ): پیغه مبه ر ﷺ ئەفه رموی: (به پاستی
له دواوی تو سی جار چوار وشه م وت: (مه به ست له م ویرده ی
سه ره وه)، ئەگه ر بیّت و پیوانه بکریّت به وه ی تو ئەم پرۆ
خویندوته له زیکره کان، ئەوا پیوانه ئەکریّت) (صحیح) فی
صحیح الجامع برقم (۵۱۳۹). (ئوه پیغه مبه ر صلی الله علیه
وسلم به یه کیّک له خیزانه کانی وت، که له دواوی نویژی به یانی
له مزگه وت مابوو به بۆ زیکر و عیبادت کردن تاوه کو
پۆژه لات).

۱۶- دهست که وتنی گه نجینه ی به هه شت:

پیغه مبه ر ﷺ ئەفه رموی: (ئایا گه نجینه یه ک له گه نجینه کانی
به هه شتتان پی رانه گه یه نم؟ وترا به لی، پیغه مبه ر ﷺ فه رموی:
وتنی: (لَا حَوْلَ ، وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ). (صحیح) فی صحیح الجامع
برقم (۷۸۲۰).

۱۷- کہ فارہ تی کو رو مہ جلیس :

پیغہ مبر ﷺ ئە فہ رموی (ہہ رکہ سیئک لہ ناو کو پریک دانیشتی و دەنگی لیوہ ہاتبی و قسہی زور کردبی، جا پیش ئەوہی لہ کو پڑہ کہ ہہ لسابی، ئە مہی خویندی) **(سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ)** ئەوا ئیلا خوی گہورہ لیی خو ش دەبی، لہوہی لہو کو پڑہ دا وتبیہ تی). (صحیح) فی صحیح الجامع برقم (۶۱۹۵).

۱۸- **وتنی (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)**؛ پیغہ مبر ﷺ ئە فہ رموی: (ہہ رکہ سیئک پوژی (۱۰۰) جار ئەم دو عایہ بلی ئەوا (۱۰۰) چاکہی بۆدەنوسری و (۱۰۰) تاوانی لی رەش دەبیئەوہ، و ئەو پوژہی بۆ ئەبیئە قەلایەک و لہ شەیتان ئەی پاریزی ہەتاوہ کو ئیوارہ دادیئ و ہیچ کہ سیئک لہو باشتر نایەت ئیلا مہگەر کہ سیئک لہو زیاتری وتبیئ). (صحیح) فی صحیح الجامع برقم (۶۴۳۷).

۱۹- وتنی (سُبْحَانَ اللَّهِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ، اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ)

دوای ہہ موو نویژیکی فہرز: پیغہ مہر ﷺ ئە فہرموی: (ہہر کہسیٰ لہ دوای ہہ موو نویژیکی فہرز} ۳۳ جار سبحان اللہ، ۳۳ جار الحمد للہ، ۳۳ جار اللہ اکبر} بخوینی، کہ دہ کاتہ ۹۹، وہ بیکات بہ ۱۰۰ بہ وتنی (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)، ئەوا خوای گہورہ لہ ہہ موو گوناہہ کانی دہبوری، ئە گہر بہ قہد کہ فی دہریاش زور بی). (صحیح) فی صحیح الجامع برقم (۶۲۸۶).

۲۰- سہ لاوہت دان لہ سہر پیغہ مہر ﷺ :

کہ ئە فہرموی: (ہہر کہس یہک سہ لاوہتم لہ سہر لی بدات ئەوا خوای گہورہ ۱۰ سہ لاوہتی لہ سہر لی دہدات، وہ ۱۰ گوناہی لی رہش ئە بیئہ وہ، وہ ۱۰ پلہ بہرز ئە کریتہ وہ، وہ ۱۰ چاکہی بو ئەنوسری) (صحیح) فی صحیح الجامع برقم (۶۳۵۹) وہ باشترین سہ لاوہت دانیش ئەمہیہ (اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَكَأَنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

مُحَمَّدٌ كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ
مَجِيدٌ.)

۲۱- گه ورهیی (سُبْحَانَ اللَّهِ):

پیغه مبهَر ﷺ ئە فه رموی: (به وتنی ۱۰۰ جار (سُبْحَانَ اللَّهِ)
هه زار خیری بو ئە نوسری، یان هه زار تاوانی لی پەش
ئە بیته وه.) (صحیح) فی صحیح الجامع برقم (۲۶۶۵)

۲۲- ته وقه کردن له کاتی به یه ک گه یشتندا:

پیغه مبهَر ﷺ ئە فه رموی: (هه ردوو موسلمان که به یه ک ئە گه ن
و ته وقه ئە که ن ئیلا خوای گه وره لیان خو شده بی پیش
ئە وهی لی ک جیا بینه وه.) (حسن) فی صحیح الجامع
برقم (۵۷۷۷).

۲۳- سه ردانی نه خوش:

پیغه مبهَر ﷺ ئە فه رموی: (هه ر موسلمانیک سه ردانی
نه خوشیک موسلمان بکات له به یانی دا، ئە وا هه فتا هه زار
فریشته سه لاوه تی له سه ر ده دن تا ئیواره، وه هه رکه س له
ئیواره دا سه ردانی بکات، ئە وا هه فتا هه زار فریشته

سہ لاوہ تی لہ سہر دہ دہن تاوہ کو بہ یانی، وہ بوی دہ بیٹہ
 خہ زینہ یہ کہ لہ بہ ہشت دا). (صحیح) فی صحیح الجامع
 برقم (۵۷۶۷)

۲۴- خیری ریزی یہ کہ می نوژی جہ ماعت:

پیغہ مبر ﷺ ئە فہ رموی: (ئہ گہر ہاتباو خہ لکی بیان زانیبایہ
 کہ خیری ریزی یہ کہ می جہ ماعت چہ ندہ یہ، پاشان ئەوہ یان
 دہست نہ کہ وتایہ ئیلا بہ تیرو پشک (قورعہ) نہ بوایہ، ئەوا
 بویان دہ کرد). (صحیح) فی صحیح الجامع برقم (۵۳۳۹)

۲۵- قہرز دان بہ بی سود (ربا) (بدون فوائد):

پیغہ مبر ﷺ ئە فہ رموی: (ہہر موسلمانیک (دوو جار) قہرز
 بدات بہ موسلمانیک ئەوا وہ کو ئەوہ وایہ کہ جاریکیان بہ
 خیر (صدقہ) دابیہ تی. (صحیح) فی صحیح الجامع
 برقم (۵۷۶۹)

۲۶- گہ یاندنی خزمایہ تی (صلة الرحم):

پیغہ مبر ﷺ ئە فہرموی: (ہہ رکہ سی کہ دہیہ وی پزق و پوزی فراوان بی و تہ مہ نی در یژ (پہ بہ رکہ ت) بی، ئە وا با سہردانی خزمہ کانی بکات.) (صحیح) فی صحیح الجامع برقم (۵۹۵۶).

۲۷- داواکردنی بہ ہشت و خوہ ناگرتن لہ ناگر:

پیغہ مبر ﷺ ئە فہرموی (ہہ رکہ سی (۳) جار داوا بی بہ ہشت بکات، ئە وا بہ ہشت ئە لی پہ رور دگارا بیخہ رہ بہ ہشتہ وہ، وہ ہہ رکہ س (۳) جار خو ی پہ نابگری لہ ناگر ئە وا ناگر پی ئە لی پہ رور دگارا بیپاریزہ لہ ناگر.)

۲۸- خویندنی قورئان:

پیغہ مبر ﷺ ئە فہرموی (خویندنی سورہ تی ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ

أَحَدٌ ﴿۱﴾ اللَّهُ الصَّمَدُ ﴿۲﴾ لَمْ يَكِدْ وَلَمْ يُولَدْ ﴿۳﴾

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ﴿۴﴾ ﴿سورة الإخلاص، بہ قہ د

سییہ کی قورئان ہہیہ.) (صحیح) فی صحیح الجامع

برقم (۴۴۰۵)، وه ده فهرموی (خویندنی سوره تی) ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا

الْكَافِرُونَ ﴿١﴾ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴿٢﴾ وَلَا أَنْتُمْ

عَبِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿٣﴾ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ ﴿٤﴾ وَلَا أَنْتُمْ

عَبِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿٥﴾ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴿٦﴾ ﴿سورة

الکافرون، خیری به قه د خویندنی چواریه کی قورئان هیه)

(حسن) فی صحیح الجامع برقم (۶۴۶۶) وه ده فهرموی

(هه رکه س له پوژی جومعه دا سوره تی (کهف) بخوینی ئه وا

بوئی ده بیته نور و پوژنایی له بهینی دوو جومعه دا) (صحیح)

فی صحیح الجامع برقم (۶۴۷۰).

۲۹- پاداشتی بانگ دهران:

پیغه مبه ر ﷺ ئه فهرموی: (هیچ که سانیک نییه له جنوکه کان و

مروقه کان و هه رشتیکی تریش که گوئیان له بانگ بی ئیلا له

پوژی دواییدا شاهیدی بو دهن) (صحیح) فی صحیح الجامع

برقم (۲۴۵۰). وه ده فهرموی: (بانگ دهران له پوژی دواییدا

گہردنیان لہ ہہ موو کہس دریژترہ). (صحیح) فی صحیح الجامع برقم (۶۶۴۵)

۳۰- نویرژی بہ کومہل (جہماعہت):

پیغہمبہر ﷺ ئەفہرموی: (ئەنجامدانی نویرژہ فہرزہکان بہ کومہل خیر و پاداشتی بہ (۲۷) پلہ زیاترہ لہ ئەنجامدانی نویرژہ کہ لہ مالہوہ بہ تہنیا). (صحیح) فی صحیح الجامع برقم (۳۸۲۰)

۳۱- ئەنجامدانی نویرژی خەوتنان (العشاء) و بہیانی بہ

جہماعہت: پیغہمبہر ﷺ ئەفہرموی: (ہہرکہس نویرژی خەوتنان بہ جہماعہت ئەنجام بدات، ئەوا وەکو ئەوہ وایہ کہ شہو تا نیوہی شہو شہو نویرژی کردبی، وەہہرکہس نویرژی بہیانیش بہ جہماعہت ئەنجام بدات، ئەوا وەکو ئەوہ وایہ کہ ئەو شہوہ ہہرنہ خەوتبی و شہوہ کہ ہہموی شہو نویرژی کردبی). (صحیح) فی صحیح الجامع برقم (۶۳۴۱).

۳۲- کردنی نویژہ سوننہ تہ کان بہ شاراوہیی (واتہ لہ

مالہوہ):

پیغہ مبر ﷺ ئە فہرموی: (کردنی نویژہ سوننہ تہ کان بہ شیوہ یہ ک خہ لک نہت بینی) (واتہ لہ مالہوہ) بہ قہد (۲۵) پلہ یہ بہ رامبر بہوہی کہ لہ بہر چاوی خہ لکہوہ بیکہیت (واتہ: لہ مزگہوت)). (صحیح) فی صحیح الجامع برقم (۳۸۲۱).

۳۳- سوننہ تی پیش نویژی بہ یانی و فہرزی بہ یانی:

پیغہ مبر ﷺ ئە فہرموی: ((دوو رکعات سوننہ تی پیش نویژی بہ یانی خیری باشرتہ لہ ہموو دونیا و ئەوہی کہ تیشی دایہ.)) (صحیح) فی صحیح الجامع برقم (۳۵۱۷)، وہدہ فہرموی: (ہرکس نویژی بہ یانی بکات ئەوا لہ ژیر پہیمان و بہ لینی خوی گہورہ دایہ.) (صحیح) فی صحیح الجامع برقم (۶۳۴۳).

۳۴- دوعای چونہ بازار:

پیغہ مبر ﷺ ئە فہ رموی (ہر کہ س چوو بو بازار و ئەم
 دوعایہی خویند: (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ
 الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ، وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ
 الْخَيْرُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) ئەوا ہزار ہزار
 (واتہ: ملیونیک) چاکہی بو دهنوسری، وہ ہزار ہزار
 خراپہی لی پەش دە کریتہ وہ، وہ ہزار ہزار پلہ بہرز
 دە کریتہ وہ وہ خانویہ کی لہ بہ ہشت بو دروست دە کریت
 (حسن) فی صحیح الجامع برقم (۶۲۳۱)

۳۵- فہزل و پاداشتی زانا (عالم):

پیغہ مبر ﷺ ئە فہ رموی: (فہزلی عالم لە سەر خواپہ رست
 وہ کو فہزلی من وایہ بہ سەر نزمترینتان داو دە فہ رموی:
 (بہ راستی خوای گہورہ و فریشتہ کانی و ئەہلی ئاسمانہ کان
 و زہوی و ہتا میروو لہ کونہ کہیدا و ہتا حوتیش،
 سہ لاوت لە سەر ئەو کہ سہ لیدہ دهن، کہ خەلکی فیبری کاری
 خیر دہ کات). (صحیح) فی صحیح الجامع برقم (۴۲۱۳).

۳۶- داوای شہید بوون لہ خوای گہورہ بہ راستگوئی:

پیغہ مبر ﷺ ئە فہرموی: (ہہرکہسی داوای شہید بوون بکات بہ راستگوئی ئەوا خوای گہورہ دەیگہ ینیتہ شوین و پلہی شہیدان ئەگەر چی لەسەر جیگاکی خۆشی بمری).
(صحیح) فی صحیح الجامع برقم (۶۲۷۶).

۳۷- دوای دوا نان خواردن و جل و بہرگ لہ بہرکردن:

پیغہ مبر ﷺ ئە فہرموی: (ہہرکہسی خواردنی خوارد و پاشان ئەم دوایہی خویند { **الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا** **وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةٍ** } ئەوا خوای گہورہ لہ ہموو گوناہہکانی رابردوی خۆش دەبی). وہ دەفہرموی:
(ہہرکہسی لہکاتی جل و بہرگ لہ بہرکردن دا بلی { **الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي هَذَا الثَّوْبَ وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةٍ** } ئەوا خوای گہورہ لہ ہموو گوناہہکانی رابردوو و دواتریشی خۆش دەبی). (حسن) فی صحیح الجامع برقم (۶۰۸۶).

۳۸- گوی رایہ لی نافرہت بو میردہ کہی:

پیغہ مبر ﷺ ئە فہرموی: (ئە گەر نافرہت پینچ نویژہ فہرزہ بکات، وہ مانگی رپہ مہزان بہ پوژوو بی، وہ داوینی خوی پپاریزی، وہ گوپرایہ لی میردہ کہی بکات ئەوا پیی دەوتری بچو ناو بہ ہہشتہ وہ بہ ہر دەرگایہ کدا بی لہ دەرگاگانی بہ ہشت کہ خۆت دەتہ ویت) (صحیح) فی صحیح الجامع برقم (۶۶۰).

۳۹- چاکہ کردن لہ گەل دایک و باوک:

پیغہ مبر ﷺ ئە فہرموی: (باشترین کردہ وہ لای خوی گہورہ ئەجامدانی نویژہ کانہ لہ کاتی خۆیدا، وہ چاکہ کردنہ لہ گەل دایک و باوکدا) (صحیح) فی صحیح الجامع برقم (۱۰۹۴)

۴۰- کہ فالہت کردنی یہ تیم (بی باوک):

پیغہ مبر ﷺ ئە فہرموی: (ہہرکہ سییک کہ فالہتی (سہرپہرشتی) یہ تیمیک بکات، ئەوا لہ بہ ہشت دا لہ گەل من وەک پەنجہی شایہ تمان و پەنجہی ناوہ پراستہ (واتہ وا لیک نزیکین). (صحیح) فی صحیح الجامع برقم (۱۴۷۵).

۴۱- خوو رهوشتی جوان (حُسن الخلق):

پیغه مبه ر ﷺ ئه فه رموی: (به راستی ئیماندار به هوی
 رهوشتی جوانیه وه پلهی دهگاته پلهی ئه وانهی که رۆژوو گر
 وشه و نویتز کهرن) (صحیح) فی صحیح الجامع برقم (۱۹۳۲).

حوکمی هه ندیک له و تاوانانه ی که پیغه مبهەر ﷺ نه هی لی کردون

۱- درۆکردن:

پیغه مبهەر ﷺ ئە فەرموی: (به پستی درۆ به ره و خراپه کاریت ده بات وه خراپه کاریش به ره و ئاگر ده تبات، وه خه لکی درۆ ده کهن و بهرده وام له سه ری ده پۆن هه تا لای خوای گه وره به درۆزان له قه لم ده درین) (صحیح) فی صحیح الجامع برقم (۴۰۷۱) وه ده فەرمویت: (وهیل بو ئه وکه سه ی که شتیکی درۆ ده گیریتته وه، بو ئه وه ی خه لکی پیی پیبکه نن، وهیل بو ئه و، وهیل بو ئه و) (حسن) فی صحیح الجامع برقم (۷۱۳۶).

۲- نوشته کردن و شت هه لئواسین بو چاوه زار:

پیغه مبهەر ﷺ ئە فەرموی: (به پاستی نوشته کردن) (ئه ونوشته یه ی که مانای دیارنیه و ته له زمه یه) وه شت هه لئواسین (وهک میروه شینکه و نالی کهر و شتی تریش) وه نوشته ی سیحری بو خوشه ویستی و له یه ک کردن (دل)

رہ شکردن) ہرہہ مویمان شیرک و ہاوہل دانانن بؤ خوی
 پەرہردگار) (صحیح) فی صحیح الجامع برقم (۱۶۳۲) وہ
 دہ فہرموی: (شوم کردن شہریک پیداکردنہ بؤ خوا)
 (صحیح) فی صحیح الجامع برقم (۳۹۶۰).

۳- باسکردنی پاشہ ملہ (غہیبہت):

پیغہمبہر ﷺ ئە فہرموی (ئایا ئە زانن غہیبہت چی یہ؟
 فہرمویان خوی گہورہ و پاشان پیغہمبہرہ کہی دہ زانن،
 فہرموی: باسی براکہت بکہی بہوہی کہ پیی ناخوشہ،
 فہرمویان ئە گہر ئەو شتانہی کہ باسمان کرد تییدا ہہبوو؟
 فہرموی ئە گہر تیایدا ہہبوو ئەوا غہیبہتت کردووہ، ئە گہرنا
 بوہتانت بؤ کردووہ) (صحیح) فی صحیح الجامع برقم (۸۶).

۴- خو بہزل زانین (التکبر):

پیغہمبہر ﷺ ئە فہرموی: (ئەو کہسہی تۆزقالہ زہرہ یہک خو
 بہزل زانینی تیدابیت، ناچیئتہ بہہ شتہوہ)، وترا بہراستی
 پیایوی وا ہہیہ پیی خوشہ جل و بہرگ و پیلاؤ و نہ علی
 جوان و باش بیت، فہرموی خوی گہورہ جوانہ و جوانیشی

خۆش دهوئ، به لأم خۆبه زل زانین ئه وهیه که دان به هه ق
 دانه ئی و په تی بکاته وه و به چاوی سوک سهیری خه لکی
 بکات. (صحیح) فی صحیح الجامع برقم (۷۶۷۴).

**۵- رۆیشتنه دهره وهی ئه و ئافره تهی که خوی بۆن خوش
 کردبی:**

پیغه مبه ر ﷺ ئه فهرموئ (هه ر ئافره تیك بۆن به خۆیدا بکات و
 بجیته دهره وه، پاشان به لای کۆمه له خه لکیکدا تیپه پری
 بۆئه وهی بۆنی بکه ن، ئه وا وه ک ئه وه وایه که زینای کردبی،
 وه هه موو چاویکیش زینا ده کات) (صحیح) فی صحیح الجامع
 برقم (۲۷۰۱).

۶- خیانه تکردنی ده سه لاتدار له دار و ده سه ته کانی:

پیغه مبه ر ﷺ ئه فهرموئ: (هیچ به نده یه ک نیه که خوای
 گه وره کردبیته سه ره رشتیکار به سه ر که سانیکه وه و
 خیانه تی لی کردبن، وه بمری له سه ر ئه و حاله، ئه وا ئیلا
 خوای گه وره به هه شتی له سه ر هه رام ده کات.) (صحیح) فی
 صحیح الجامع برقم (۵۷۴۰).

۷- نهو ئافردهتهی که داوای ته لاق دهکات به بی عوزر:

پیغه مبه ر ﷺ ئە فه رموی: (هه ر ئافرده تیگ داوای ته لاق له میرده که ی بکات به بی هیچ هوکاریک، ئەوا ته نانه ت بوونی به هه شتیشی لی حه رامه .) (صحیح) فی صحیح الجامع برقم (۲۷۰۶).

۸- په یوه ندی برین له نیوان موسلماناندا:

پیغه مبه ر ﷺ ئە فه رموی: (حه لال نیه بو بروادار که له (سی) پوژ زیاتر قسه له گه ل براکه یدا نه کات، وه هه رکه س زیاد له (۳) پوژ قسه له گه ل براکه یدا نه کات و له و حاله ته دا بمری ده چیته ئاگره وه .) (صحیح) فی صحیح الجامع برقم (۷۵۵۹) وه ده فه رموی (هه رکه سیگ سالیگ قسه له گه ل براکه ی نه کات ئەوا وه کو ئەوه وایه که خوینی رشتبی). (صحیح) فی صحیح الجامع برقم (۶۵۸۱).

۹- دوو زمانی (قسہ ہیئان و بردن):

پیغہمبہر ﷺ ئەفہرموی: (ئەو کەسە ی کە قسە ئەھیئە و ئەبات لە بەینی خەلکیدا (بە مەبەستی بەین تیکدان و فیتنەیی) ناچیتە بەهەشتەو. متفق علیہ.

۱۰- قبول ئەبونی تەوبە لە بیدعەچی: پیغہمبہر ﷺ

ئەفہرموی: (بەپراستی خوای گەرە مەنعی تەوبە لە هەموو خاوەن بیدعە یە دەکات، واتا لێی گیرا نابیت). (صحیح) فی صحیح الجامع برقم (۱۶۹۹).

۱۱- سەیرکردنی قەدەغە کراوەکان (المحرمات):

پیغہمبہر ﷺ ئەفہرموی: (نوسراوەتەو لەسەر مرقۆقەکان توشبونیان بە زینا، جا ئەوہی ہەر پی دەگات و پزگاری نابیت، چاوەکان زینایان سەیرکردنە (نەزەر)، وە زینای گویش گوئیگرتنە (لە شتی خراپ)، زینای زوبان قسە ی خراپ، وە زینای دلێش ئارەزوو و خۆزگە ئەخوای بە شتی خراپ، وە فەرچیش ئەمە بەپراست دەگە یە نیت، یان بە درۆی دەخاتەو). (صحیح) فی صحیح الجامع برقم (۴۴۷۶).

۱۲- چه لال کردنی موسیقا:

پیغمبر ﷺ نه فرموی: (هه ندیک له ئوممه تی من په یدا ده بن زینا و ئاوریشم و مهی (ئارهق) و موسیقا (المعازف) چه لال ده کهن) (صحیح) فی صحیح الجامع برقم (۵۴۶۶) (المعازف هه موو جوړ و ئامیره کانی موسیقا ده گریته وه)

۱۳- خواردن و خواردنه وه به دهستی چه پ:

پیغمبر ﷺ نه فرموی: (با هیچ کامیک له ئیوه به دهستی چه پ نه خوات و نه خواته وه، چونکه به راستی شهیتان به دهستی چه پی ده خوات و ده خواته وه). (صحیح) فی صحیح الجامع برقم (۷۵۷۹).

۱۴- بانگہ وازی کردن بو گومرایی :

پیغہ مبر ﷺ ئە فہرموی: (ہەرکەسیک بانگہ وازی بکات بو کاریکی خراپ و گومرایی یەک ئەوا تاوانی ئەوانەشی لەسەرە کە شوینی ئەکەون بی ئەوەی لە تاوانی شوین کەوتوہ کانی کەم بیئەوہ) (صحیح) فی صحیح الجامع برقم (۶۲۳۴).

۱۵- سویند خواردن بہ غەیری خوا :

پیغہ مبر ﷺ ئە فہرموی (ہەرکەسیک سویند بہ غەیری خوای گەرہ بخوات ئەوا بہ راستی کوفری کردووہ یان شەریکی بو خوا پەیدا کردووہ). (صحیح) فی صحیح الجامع برقم (۶۲۰۴).

۱۶- سود خواردن (أکل الربا) :

پیغہ مبر ﷺ (لەعنەتی کردووہ لەو کەسە ی کە ریبای دەخوات و ئەوہشی کە سووہ کە دەدات وە شاھیدە کەشی و نوسەر) (کاتب) (کەشی ھەمویان وەک یەک وان لە تاوانە کە دا) (صحیح) فی صحیح الجامع برقم (۵۰۹۰) وە دە فہرموی: (ئەو پیاوہی کە یەک درھەم ریبای دەخوات وە دەشزانێ کە ریبایە، لە (۳۶) زینا خراپ ترە). (صحیح) فی صحیح الجامع برقم (۳۳۷۵).

۱۷- خواردنه وه بہ پیوہ:

پیغہ مبر ﷺ (قہدغہی کردووہ کہ بہ پیوہ بخویہ وه)
 (صحیح) فی صحیح الجامع برقم (۶۸۸۷) وه پیغہ مبر
 قہدغہی کردوه کہ فوو بکریت بہ خواردن و خواردنه وه (بو
 سارد کردنه وهی) (صحیح) فی صحیح الجامع برقم (۶۹۱۳).

۱۸- فہ خر و شانازی کردن:

پیغہ مبر ﷺ ئەفہ رموی: (بہ راستی خوی گہ وره وه حی
 بوناردوم کہ ئیوہ بی فیز (متواضع) بن، تاوہ کو هیچ کامیک له
 ئیوہ خوی بہ گہ وره نہ زانی و فہ خر و شانازی نہ کات بہ سہر
 یه کیکی تره وه) (حسن) فی (صحیح) فی صحیح الجامع
 برقم (۱۷۲۵).

۱۹- خراپی حہ سودی:

پیغہ مبر ﷺ ئەفہ رموی: (حہ سودی بہ یکتہ مہ بہن) رواہ أبو داود.

۲۰- خوار دنہ وہی سہر خوشکەر:

پیغہ مبر ﷺ ئەفہ رموی (خوای گہ ورہ بہ ہشتی لہ سہرسی کس حہ رام کردووہ، ۱- ئەوکہ سہی کہ بہر دہوام سہر خوشہ (مودمین)، ۲- ئەوہی دایک و باوکی ئازار دہدات، ۳- دہییوس) (صحیح) فی صحیح الجامع برقم (۳۰۵۲)، وہ دہفہ رموی: (ہرکس مہ شروبی سہر خوشکەر بخواتہ وہ ئەوا (۴۰) پوژ عیبادہ تی لی قبول ناکری). (صحیح) فی صحیح الجامع برقم (۶۳۱۲).

۲۱- دوژمنایہ تی کردنی دوستانی خودا:

پیغہ مبر ﷺ ئەفہ رموی: (خوای گہ ورہ دہفہ رموی: ہرکس دوژمنایہ تی دوستیکی من بکات، ئەوا ئیعلانی شہری لہ گہل دا دہکەم). (صحیح) فی صحیح الجامع برقم (۱۷۸۲).

۲۲- تہرک کردنی جومعه و نویژی عہصر: پیغمبر ﷺ

ئەفەرموی: (ھەرکەس سێ جومعه بچوینی بەکەم تەرخەمی ئەوا خوای گەورە مۆر لەسەر دلی لێدەدات.) (صحیح) فی صحیح الجامع برقم (۶۱۴۳) وە دەفەرموی: (ھەرکەس نویژی عەصر تەرک بکات ئەوا کردەووەکانی ھەڵدەووەشینەووە) (صحیح) فی صحیح الجامع برقم (۶۱۴۶).

۲۳- وتنی قسە یەک کە خوای گەورە تورە بکات:

پیغمبر ﷺ ئەفەرموی: (وہ بەراستی جاری واھە یە بەندەکەم وشە یەکی وا دەلێت کە خوای گەورە ی پێ تورە دەبێ و ئەویش گوێی پێ نادات، ئەوا بەھۆیەووە حەفتا پایز لە ئاگری دۆزەخ دا دەسوتێ) (صحیح) فی صحیح الجامع برقم (۱۶۱۸).

۲۴- خۆشوبھاندن بە بی باوھەران:

پیغمبر ﷺ ئەفەرموی: (ھەرکەس خۆی بشوبھینێ بەوان ئەوا لەوانە) (صحیح) فی صحیح الجامع برقم (۶۱۴۹) وە دەفەرموی (ئەو کەسە ی کە خۆی بەغەیری ئیمە

دهشوبهینی، له ئیمة نییه) (صحیح) فی صحیح الجامع برقم (۵۴۳۴) ئەم خویشوبهاندنەش زۆر لایەن دەگریتهوه، وهك { له دیندا، له ههلسوکهوتدا، له جل و بهرگ و شیوازدا، له مامهله و خویرهوشتدا، هتد } .

۲۵- ئهو که سهی که پیی خوشبی خه لکی له بهری ههستن:

پیغه مبهر ﷺ ئەفه رموی: (هه رکه سهی پیی خوشبی و هه زی لیبی خه لکی له بهری هه لسن، ئەوا با شوینی خوئی له ناگر دیاری بکات). (صحیح) فی صحیح الجامع برقم (۵۹۵۷)

۲۶- تهرك كردنى سه لاوهت لیدان له سهر پیغه مبهر ﷺ :

که دهفه رموی: (به خیل ئەو که سهیه که ناوی منی له لا ده هیئری، سه لاوهتم له سهر لی نادات). (صحیح) فی صحیح الجامع برقم (۲۸۷۸).

۲۷- پیش خستنی دونیا به سهر ناخیره تدا:

پیغه مبهر ﷺ ئەفه رموی: (هه رکه سه هه م و غه می دونیا بی، ئەوا خوی گه وره هه ژاری ده خاته بهینی چاوه کانیه وه، وه ئیشه کانی لی په رپوت ده کات و هه چیشی بو نایه ئیلا ئەوه نه بی که بوئی ته قدیر کراوه) (صحیح) فی صحیح الجامع برقم (۶۵۱۰).

۲۸- وینہ گرتن :

پیغہ مبر ﷺ ئە فہرموی: (ہر کہ س وینہ یە ک دروست بکات ئەوا بہ ہوی ئەو وینہ وہ سزا دەدریّت لە پۆژی قیامە تدا هەتاوہ کو پوحی بہ بەردادە کات، کہ ئەوہش ناتوانی...)

(صحیح) فی صحیح الجامع برقم (۶۳۷۰)، وہ دەفہرموی: (بہ ئیشترین سزا لە پۆژی قیامە تدا بو وینہ گرانہ، وہ پییان دەوتریّت چۆن دروستت کرد ئاواش پوحی بہ بەردا بکہ)

(صحیح) فی صحیح الجامع برقم (۶۳۷۰)، وہ دەفہرموی: (فریشتە ناچیّتە مالیکە وہ کہ وینہ یان سەگی تیا بیّت)

(صحیح) فی صحیح الجامع برقم (۱۵۶۳).

۲۹- گوی گرتن له خه لک له په نایه که وه (جاسوسی) :

پیغهمبەر ﷺ ئە فەرموی: (هەرکەسێ گوی له خه لک بگری به شیوهیه که پێیان ناخۆش بێت که ئەو که سه گویی لیگرتون، ئەوا قورقوشم دەکریت به گویدا) (صحیح) فی صحیح الجامع برقم (۶۰۲۸).

۳۰- رۆیشتن بۆ لای فالچی و جادوو گهران:

پیغهمبەر ﷺ ئە فەرموی: (هەرکەس بجیت بۆ لای ئەستیره ناسیک (جادوویه) یان نهین زانیک وه باوهر به قسه کانی بکات، ئەوا کافر بووه بهو قورئانهی که بۆ محمد ﷺ دابه زیوه) (صحیح) فی صحیح الجامع برقم (۵۹۳۹)،

وه ده فەرموی: (هەرکەس بجی بۆ لایان پرساری شتیکیان لی بکات، ئەوا چل شهو نوژی لی قبول ناکری) (صحیح) فی صحیح الجامع برقم (۵۹۴۰).

۳۱- خۆشوبهاندنی پیاوان به نافرەتان یان نافرەتان به

پیاوان: پیغهمبەر ﷺ ئە فەرموی: (ئەو پیاوهی که خوی به نافرەتان بجوینی له ئیمه نی یه، وه ئەو نافرەتهش که خوی

بہ پیوان دہ چوینیٰ لہ نئیمہ نییہ) (صحیح) فی صحیح الجامع
برقم (۵۴۳۳)۔

۳۲- بچرانندی خزمایہ تی:

پیغہ مبر ﷺ ئە فہ رموی: (ئە وکە سە ی کہ سیلە ی رەحم
بچرینیٰ ناچیتە بە هە شتە وە) (صحیح) فی صحیح الجامع
برقم (۷۶۷۱)۔

۳۳- سویند خواردن لہ مامە ئەدا:

پیغہ مبر ﷺ ئە فہ رموی: (سویند خواردن برەو بە مامە ئە
دەدات بە لام بەرە کە تی ناھیلئ) (صحیح) فی صحیح الجامع
برقم (۳۱۸۳)۔

۳۴- نە فرین کردن:

پیغہ مبر ﷺ ئە فہ رموی: (نە فرین کردن لہ بروادار وە کو
کوشتنی وایە) (صحیح) فی صحیح الجامع برقم (۷۱۰)،
وہ دە فہ رموی (ناکری بۆ کہ سیکی راستگو کہ نە فرینکار بی)
(صحیح) فی صحیح الجامع برقم (۷۷۷۴)

۳۵- لہ خوبایی بوون (العجب):

پیغہ مبر ﷺ ئە فہرموی: (سی شت بہ هیلاک بہرن: ۱- شوین
کہوتنی ئارہ زووہ کان، ۲- بہ خیلی بردن، ۳- ئە و کہ سہی
کہ لہ خوئی بایی ئە بی و بہ خوئی دہنازی) (حسن) فی صحیح
الجامع برقم (۳۰۳۹).

۳۶- تہنہا بوون بہ ئافرہتی بیگانہ (الخلوہ):

پیغہ مبر ﷺ ئە فہرموی: (با یہ کیک لہ ئیوہ بہ تہنہا لہ گەل
ئافرہتیک نہ مینیتتہوہ، چونکہ شہیتان سییہ میانہ). (بہ مانای
کہ شہیتان زہ فہریان پی دەبات) (صحیح) فی صحیح الجامع
برقم (۲۵۴۶).

له کۆتاییدا سوپاسی خوای گهوره دهکهم که یارمه تی دام بو
دوباره له چاپ دانهوهی ئەم نامیلکهیه، وه داواکارم ئیی بۆم
بکات به تویشوی پۆژی دوایی و پر خێرو بهرکه ته بکات،
بهوهی که موسلمانان سو دی زۆری ئی وهربگرن، به جی به جی
کردنی زیکر و کاره باشهکان، وه دورکه وتنه وهیان لهو کاره
خراپانهی که باسم کردون و هه موو کاریکی تری
قه دهغه کراو له شه ریه تی پاک ی نیسلام دا. وه ده بی هه موو
لایه ک نه وهش بزانی که هه موو نهو شتانه ی باسکراون له
فه رموده پیروزه کانی پیغه مبه ردا هاتوون و قسه و رای هیچ
که سیکی تر نیه.

والحمد لله رب العالمین وصلى الله وسلم على نبينا
محمد وآله وصحبه أجمعين.

چاپی دووهم تهواو بووله ۲۲ می شعبانی ۱۴۳۱ بهرامبه ر ۲-۸-۲۰۱۰ز